



## SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

Press Release  
For immediate Release  
November 8, 2016

### **SECP approves simplified regulatory requirements for mutual fund distributors**

ISLAMABAD, November 8: The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) has approved simplified regulatory requirements for distributors of mutual funds to increase the outreach of mutual funds and improve the penetration of retail investors.

Mr Zafar-ul-Haq Hijazi, the SECP chairman, has said that in order to make the country's economy grow, it is imperative to encourage mobilization of savings and investments through the capital markets. For this, the mutual fund industry has expected to play its due role in promoting a culture of savings and investment.

According to the new framework, distributors selling mutual fund units of a single asset management company (AMC) will not be required to obtain license from the SECP or register with the Mutual Funds Association of Pakistan (MUFAP). A new cadre of retired government and semi-government officials, retired bank officers and insurance agents would be eligible to act as distributors of mutual funds.

The SECP expects that the proposed measures would be helpful in encouraging qualified individuals to act as distributors to promote mutual funds as a preferred choice of investment. They can play a critical role in long term growth of mutual funds industry and development of capital market which is linked with the participation of investors, in particular with retail investors in the mutual funds industry. Moreover, it has the potential to create many jobs for fresh graduates as well as for experienced professionals.

The SECP has made necessary amendments to the Non-Banking Finance Companies and Notified Entities Regulations, 2008, which are available for public comments on its website under below mentioned link.

<https://www.secp.gov.pk/laws/draft-for-discussion/draft-rules-regulations/>

## ایس ای سی پی نے میوچل فنڈ کے تقسیم کاروں کے لئے سہل انضباطی مطلوبات کی منظوری دے دی

اسلام آباد، ۸ نومبر: سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے میوچل فنڈ کے تقسیم کاروں کے لئے آسان انضباطی مطلوبات کی منظوری دی ہے تاکہ میوچل فنڈ کی رسائی میں اضافہ اور ریٹیل سرمایہ کاری بڑھائی جاسکے۔ چیئرمین ایس ای سی پی جناب ظفر الحق حجازی صاحب نے کہا ہے کہ ملکی معیشت کی نشوونما کے لئے کیپٹل مارکیٹوں کے ذریعے بچتوں اور سرمایہ کاری کو رو بہ عمل لانے کی حوصلہ افزائی کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس حوالے سے میوچل فنڈ کی صنعت سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ بچت اور سرمایہ کاری کی ثقافت کو فروغ دینے میں اپنا جائز کردار ادا کریں گے۔ نئے فریم ورک کے مطابق وہ تقسیم کار جو واحد ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کے میوچل فنڈ یونٹس کی فرخت کرتے ہوں انہیں ایس ای سی پی یا میوچل فنڈز ایسوسی ایشن آف پاکستان (موفاپ) سے لائسنس کے حصول کی کوئی ضرورت نہیں۔ ریٹائرڈ سرکاری و نیم سرکاری اہل کاروں، ریٹائرڈ بینک افسران اور بیمہ ایجنٹس کا ایک نیا گروہ میوچل فنڈز کے تقسیم کار کی طور پر کام کرنے کے اہل ہوں گے۔

امید ہے کہ ایس ای سی پی کے مجوزہ اقدامات میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کو ترجیحی انتخاب کے طور پر کے فروغ دینے کے لئے قابل افراد کے بطور تقسیم کار کام کرنے کی حوصلہ افزائی میں مددگار ثابت ہوں گے۔ یہ اقدامات میوچل فنڈ کی صنعت اور سرمایہ کاروں کی شراکت سے منسلک کیپٹل مارکیٹ کی ترقی خاص طور پر ریٹیل سرمایہ کاروں سے منسلک میوچل فنڈ صنعت کی طویل مدتی نمو میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔

نیز یہ کہ نئے گریجویٹ کے ساتھ ساتھ تجربہ کار پیشہ وروں کے لئے کئی نئی آسامیاں تخلیق کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایس ای سی پی نے ضوابط برائے غیر بینکی کمپنیوں اور نوٹی فائیڈ اینٹی ٹیز، ۲۰۰۸ میں ضروری ترامیم کی ہیں جو عوامی آراء کے لئے ویب سائٹ کے درج ذیل لنک پر موجود ہیں:

<https://www.secp.gov.pk/laws/draft-for-discussion/draft-rules-regulations/>